



DE Die MASK wurde für die schnelle Regenerationdehydrierter Haut entwickelt. Die weiche Seidenschicht ist mit hochwertigen Peptiden und Hyaluronsäure getränkt, die nach und nach ein wirksames Serum freisetzen, um den Feuchtigkeitshaushalt der Haut wiederherzustellen.

Säubern Sie Gesicht und Hände. Öffnen Sie den Beutel, entnehmen Sie die Maske, entfalten und entfernen Sie die blaue Schutzfolie. Bedecken Sie das Gesicht mit der seidigen Seite nach unten. Entfernen Sie die weiße Schutzfolie und legen Sie die Maske gleichmäßig auf die Haut. 20 bis 30 min. auf der Haut belassen, bis das Vlies zu trocken beginnt. Dann die Maske entfernen und den Rest des Serums sanft in die Haut einmassieren. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Nicht für die Intimhygiene bestimmt.

EN The MASK is designed for rapid recovery of dehydrated skin. The soft silk layer is soaked in high-end peptides and hyaluronic acid that steadily releases an effective serum to re-establish skin moisture.

Clean face and hands. Open sachet, take out mask, unfold it and remove the blue protective layer. Cover face with the silky side down. Remove the white protection layer and apply the silk evenly on the skin. Leave it on the skin for 20 to 30 min. until the silk starts to dry. Remove mask and gently massage the rest of the serum into the skin. Not suitable for children under 3 years of age. Not intended for intimate hygiene.

FR Le MASK a été conçu pour régénérer rapidement les peaux déshydratées. Sa fine couche soyeuse est imprégnée de peptides de haute qualité et d'acide hyaluronique, qui libèrent progressivement un sérum efficace afin de restaurer l'équilibre hydrique de la peau.

Nettoyer le visage et les mains. Ouvrir le sachet, sortir le masque, le déplier et retirer la couche protectrice bleue. Couvrir le visage avec la face soyeuse vers le bas. Retirer la couche de protection blanche et appliquer la soie uniformément sur la peau. Laisser agir pendant 20 à 30 min, jusqu'à ce que la soie commence à sécher. Retirer le masque et faire pénétrer le reste du sérum dans la peau en massant délicatement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser pour l'hygiène intime.

ES La MASK ha sido diseñada para la rápida regeneración de la piel deshidratada. La suave capa de seda está impregnada de péptidos de alta calidad y ácido hialurónico, que liberan gradualmente un sérum eficaz para restablecer el equilibrio hídrico de la piel.

Limpia el rostro y las manos. Abra la bolsa, saque la mascarilla, desdóblela y retire la lámina protectora azul. Cubra el rostro con la cara sedosa hacia abajo. Retire la lámina protectora blanca y coloque la mascarilla de manera uniforme sobre la piel. Déjela actuar entre 20 y 30 minutos, hasta que el tejido comience a secarse. A continuación, retire la mascarilla y masajee suavemente el resto del sérum sobre la piel. No apto para niños menores de 3 años. No destinado a la higiene íntima.

IT La MASK è stata sviluppata per la rapida rigenerazione della pelle disidratata. Il morbido strato di seta è impregnato di peptidi di alta qualità e acido ialuronico, che rilasciano gradualmente un siero efficace per ripristinare l'equilibrio idrico della pelle.

Detergere il viso e le mani. Aprire la bustina, estrarre la maschera, aprirla e rimuovere la pellicola protettiva blu. Coprire il viso con il lato setoso rivolto verso il basso. Rimuovere la pellicola protettiva bianca e applicare la maschera in modo uniforme sulla pelle. Lasciare agire sulla pelle per 20-30 minuti, fino a quando il tessuto non inizia ad asciugarsi. Quindi rimuovere la maschera e massaggiare delicatamente il siero residuo sulla pelle. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Non destinato all'igiene intima

PT A MASK foi concebida para a rápida regeneração da pele desidratada. A camada macia de

seda está impregnada com peptídeos de alta qualidade e ácido hialurónico, que libertam gradualmente um sérum eficaz para restaurar o equilíbrio hídrico da pele.

Limpe o rosto e as mãos. Abra a embalagem, retire a máscara, desdobre-a e remova a película protetora azul. Cubra o rosto com o lado sedoso virado para baixo. Remova a película protetora branca e coloque a máscara uniformemente sobre a pele. Deixe atuar durante 20 a 30 minutos, até que o tecido comece a secar. Em seguida, retire a máscara e massage suavemente o restante do sérum na pele. Não adequado para crianças com menos de 3 anos. Não se destina à higiene íntima.

NL Het MASK is ontwikkeld voor een snelle regeneratie van de uitgedroogde huid. De zachte zijden laag is doordrenkt met hoogwaardige peptiden en hyaluronzuur, die geleidelijk een effectief serum afgeven om de vochtbalans van de huid te herstellen.

Reinig uw gezicht en handen. Open het zakje, haal het masker eruit, vouw het open en verwijder de blauwe beschermfolie. Bedek het gezicht met de zijden kant naar beneden. Verwijder de witte beschermfolie en leg het masker gelijkmatig op de huid. Laat het 20 tot 30 minuten op de huid zitten, totdat het vlies begint te drogen. Verwijder vervolgens het masker en masseer de rest van het serum zachtjes in de huid. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Niet bedoeld voor intieme hygiëne.

DA MASK er udviklet til hurtig regenerering af dehydreret hud. Det bløde silkelag er gennemvædet med højkvalitetspeptider og hyaluronsyre, som gradvist frigiver et effektivt serum for at genoprette hudens fugtbalance.

Rens ansigtet og hænderne. Åbn posen, tag masken ud, fold den ud og fjern den blå beskyttelsesfilm. Dæk ansigtet med den silkeagtige side nedad. Fjern den hvide beskyttelsesfilm og læg masken jævnt på huden. Lad den sidde på huden i 20 til 30 minutter, indtil fleece-materialet begynder at tørre. Fjern derefter masken, og massér resten af serumet med blidt ind i huden. Ikke egnet til børn under 3 år. Ikke beregnet til intimhygiejne.

SV MASK har utvecklats för snabb återhämtning av uttorkad hud. Det mjuka silkeskiktet är impregnerat med högkvalitativa peptider och hyaluronsyra, som gradvis frigör ett verksamt serum för att återställa hudens fuktbalans.

Rengör ansiktet och händerna. Öppna påsen, ta ut masken, vik ut den och ta bort den blå skyddsfilmen. Täck ansiktet med den silkeslena sidan nedåt. Ta bort den vita skyddsfilmen och lägg masken jämnt på huden. Låt verka i 20 till 30 minuter tills tyget börjar torka. Ta sedan bort masken och massera in resten av serumet försiktigt i huden. Ej lämplig för barn under 3 år. Ej avsedd för intimhygien.

NO MASK er utviklet for rask regenerering av dehydrert hud. Det myke silkelaget er gjennomtrøt med høykvalitets peptider og hyaluronsyre, som gradvis frigir et effektivt serum for å gjenopprette hudens fuktigkeitsbalanse.

Rengjør ansiktet og hendene. Åpne posen, ta ut masken, Brett den ut og fjern den blå beskyttelsesfilmen. Dekk ansiktet med den silkeaktige siden ned. Fjern den hvite beskyttelsesfilmen og legg masken jevnt på huden. La den sitte på huden i 20 til 30 minutter, til fleece-materialet begynner å tørke. Fjern derefter masken og masser resten av serumet forsiktig inn i huden. Ikke egnet for barn under 3 år. Ikke beregnet på intimhygiene.

FI MASK on kehittetty kuivuneen ihon nopeaan palautumiseen. Pehmeä silkkikerros on kylästetty korkealaatuisilla peptidillä ja hyaluronihapolla, jotka vapauttavat vähitellen tehokasta seerumia ihon kosteustasapainon palauttamiseksi.

Puhdista kasvoj kaädet. Avaa pussi, ottaa naamiu esiin, avaa se ja poista sininen suojaalvo. Peittä kasvoj silkkipuolalla laspään. Poista valkoinen suojaalvo ja aseta naamiu tasaisesti ihoon. Anna vaikuttaa 20–30 minuuttia, kunnes kuitukangas alkaa kuivua. Poista sitten naamiu ja hiero jäljellä oleva seerumi hellävaraisesti ihoon. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Ei tarkoitettu intiimihygieniaan.

PL MASK została opracowana z myślą o szybkiej regeneracji skóry odwodnionej. Miękką warstwę jedwabiu nasączono jest wysokiej jakości peptydami i kwasem hialuronowym, które stopniowo uwalniają skuteczne serum, wydymając równowagę nawilżenia skóry.

Oczyść twarz i dłonie. Otwórz szaszeczkę, wyjmij maszczkę, rozłóż ją i zdejmij niebieską folię ochronną. Przyłóż maszczkę do twarzy jedwabistą stroną do dołu. Zdejmij białą folię ochronną

i równomiernie przyłóż maszczkę do skóry. Pozostaw na skórze na 20–30 minut, aż włókna zaczną wysychać. Następnie zdejmij maszczkę i delikatnie wmasuj resztę serum w skórę. Nie nadszaj się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Nie jest przeznaczona do higieny intymnej.

CS MASK byla vyvinuta pro rychlou regeneraci dehydratované pokožky. Měkká hedvábná vrstva je nasáklá vysoce kvalitními peptidy a kyselinou hyaluronovou, které postupně uvolňují účinné sérum, aby obnovily hydratační rovnováhu pokožky. Očistěte si obličej a ruce.

Otevřete šáček, vyjměte masku, rozložte ji a odstraňte moudrou ochrannou fólii. Přiložte masku na obličej hedvábnou stranou dolů. Odstraňte bílou ochrannou fólii a masku rovnoměrně přiložte na pokožku. Nechte působit 20 až 30 minut, dokud nezačne rouška vysychat. Poté masku sejměte a zbytek séra jemně vmasírujte do pokožky. Nevhodné pro děti do 3 let. Není určeno pro intimní hygienu.

BG MASK e разработана за бърза регенерация на деhidратирана кожа. Мекият копринен слой e напоен с висококачествени пептиди и хиалуронова киселина, които постепенно освобождават ефективно серум, за да възстановят хидратацията на кожата.

Почистете лицето и ръцете си. Отворете пакетчето, извадете маската, разгънете я и отстранете синьото защитно фолио. Покрийте лицето с копринената страна надолу. Отстранете бялото защитно фолио и поставете маската равномерно върху кожата. Оставете я върху кожата за 20 до 30 минути, докато тъканта започне да изсъхва. След това махнете маската и нежно въртете останалото серум в кожата. Не e подходяща за деца под 3 години. Не e предназначена за интимна хигиена.

SQ MASK është zhvilluar për të rigjallëruar shpejt lëkurën e dehidratuar. Shtresa e butë prej mëndafshi është e pasuruar me peptide cilësore dhe acid hialuronik, të cilat çlirojnë gradualisht një serum efektive për të rivendosur ekuilibrin e lagështisë së lëkurës.

Pastrojeni fytyrën dhe duart. Hapni paketën, nxirni maskën, shtrijeni dhe hiqni filmën mbrojtëse blu. Vendosni maskën mbi fytyrën tuaj me anën mëndafshore poshtë. Hiqni filmën mbrojtëse të bardhë dhe shtrijni maskën në mënyrë të njëjtashme mbi lëkurë. Lërimi në lëkurë për 20 deri në 30 minuta, derisa përllura të fillojë të thahet. Pastaj hiqni maskën dhe masazhoni butësisht serumin e mbetur në lëkurë. Nuk është i përshtatshëm për fëmijët nën 3 vjeç. Nuk është i destinuar për higjienën intime.

HR MASK je razvijena za brzo revitaliziranje dehidrirane kože. Mekani sivoj sloj prozet je visokokvalitetnim peptidima i hijaluronskom kiselinom, koji postupno otpustaju učinkovito serum za obnavljanje navoženja vode u koži.

Očistite lice i ruke. Otvorite vrećicu, izvadite masku, razmotajte je i uklonite plavu zaštitnu foliju. Stavite masku na lice sivoenom stranom okrenutom prema dolje. Uklonite bijelu zaštitnu foliju i ravnomjerno poravnajte masku na koži. Ostavite na koži 20 do 30 minuta dok se tkanina ne počne sušiti. Zatim uklonite masku i nježno umasirajte preostali serum u kožu. Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Nije namijenjeno za intimnu higijenu.

HU A MASK-ot a kizáradt bör gyors regenerálásáá fejlesztették é. A puha selyemréteg kiváló minőségű peptidekkel és hiyaluronsavval átitatva, amelyek fokozatosan hatékony szérumot bocsátanak ki, hogy helyreállítsák a bőr nedvességegyensúlyát.

Tisztítsa meg az arcát és a kezét. Nyissa át a tasakot, vegye ki a maszkot, hajtsa ki, és távolítsa el a kék védőfóliát. Fedje be az arcát a selymes oldalával lefelé. Távolítsa el a fehér védőfóliát, és helyezze a maszkot egyenesen a bőrre. Hagyja a bőrön 20–30 percig, amíg a szövét kizáradni nem kezd. Ezután vegye le a maszkot, és a maradék szérumot gyengédien masszírozza be a bőrbe. 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Nem intim higiénia célra szánják.

RO MASK a fost concepută pentru regenerarea rapidă a pielii deshidratate. Stratul moale de mătase este impregnat cu peptide de înaltă calitate și acid hialuronic, care eliberează treptat un ser eficient pentru a restabili echilibrul hidric al pielii.

Curățați-vă fața și mâinile. Deschideți plicul, scoateți masca, desfășurați-o și îndepărtați folia de protecție albastră. Acoperiți fața cu partea mătăsoasă orientată în jos. Îndepărtați folia de protecție albă și așezați masca uniform pe piele. Lăsați-o pe pielea timp de 20-30 de minute, până când materialul începe să se usuce. Apoi îndepărtați masca și masați ușor restul de ser în piele. Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Nu este destinat igienei intime.

SR MASK je razvijena da brzo revalidiraone dehidriranom kožu. Mekani viskozni sloj je projekt visokokvalitetnim peptidima i hijaluronskom kiselinom, koji postepeno oslobađaju efikasnan serum za obnavljanje ravnoteže vlage u koži.

Očistite lice i ruke. Otvorite kesicu, izvadite masku, rasplonkajte je i uklonite plavi zaštitni film. Postavite masku na lice svilenom stranom okrenutom nadole. Uklonite beli zaštitni film i ravnomerno prilagodite masku koži. Ostavite da deluje 20 do 30 minuta, dok se tkanina ne osuši. Zatim uklonite masku i nežno umasirajte preostali serum u kožu. Niije pogodno za decu mlađu od 3 godine. Niije namenjeno za intimnu higijenu.

SK MASK bola vyvinutá na rýchlu regeneráciu dehydratovanej pokožky. Jemná hodvábná vrstva je napustená vysoko kvalitnými peptidmi a kyselínou hyaluronovou, ktoré postupne uvoľňujú účinné sérum s cieľom obnoviť hydratáciu rovnomáhu pokožky.

Očistíte si tvár a ruky. Otvorte vrecúško, vyberte masku, rozložte ju a odstráňte modrú ochrannú fóliu. Zakryté tvár hodvábnou stranou smerom nadol. Odstráňte bielu ochrannú fóliu a masku rovnomerne priložte na pokožku. Nechajte pôsobiť 20 až 30 minút, kým sa tkanina nezačne vysušáť. Potom masku odstráňte a zvyšok séra jemne vmasirujte do pokožky. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nie je určené na intímnu hygienu.

VL MASK je bila razvita za hitro regeneraciju dehidrirane kože. Mehka svila je prepriena z visokokvalitnim peptidi i hialuronskoj kislini, ki postopoma sproščajo učinkovito serum za obnovu vlažnostnega ravnovesja kože.

Očistite obraz in roke. Odprite vrečko, vzemite masko, jo razgrnite in odstranite modro zaščitno folijo. Pokrijte obraz z svilnato stranjo navzdol. Odstranite belo zaščitno folijo in masko enakomerno položite na kožo. Postavite delovati 20 do 30 minut, dokler se filis ne začne sušiti. Nato masko odstranite in preostanek seruma nežno vmasirajte v kožo. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Ni namenjeno za intimo higieno.

ET MASK on loodud kuivunud naha kiireks taastamiseks. Pehme siidikiht on immutatud kvaliteetsete peptiidide ja hüaluroonhappega, mis vabastavad järk-järgult tõhusat seerumit, et taastada naha niiskustasakaal.

Puhastage nägu ja käed. Avage kott, võtke mask välja, laotage lahti ja eemaldage sinine kaitsekile. Katke nägu siidise poolega allapoole. Eemaldage valge kaitsekile ja asetage mask ühtlasele nahale. Jätke nahale 20–30 minutiks, kuni kangas hakkab kuivama. Seejärel eemaldage mask ja masseerige ülejäänud seerum õrnalt nahka sisse. Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Ei ole mõeldud intiimihigieeniks.

LV MASK ir izstrādāta, lai ātri atjaunotu dehidrētu ādu. Mīkstaīs zilas slānis ir piesātināts ar augstas kvalitātes peptiidiem un hialuronskābi, kas pakāpeniski atbrīvo dermato serumu, lai atjaunotu ādas mitruma līdzsvaru.

Notīriet sejas un rokas. Atveriet maisiņu, izņemiet masku, iztaisnojiet to un nopemiet zilu aizsargplēvi. Uzklājiet masku uz sejas ar zaidino poļu uz leju. Nopemiet balto aizsargplēvi un vienmērīgi uzklājiet masku uz ādas. Laujiet maskas iedarbību 20–30 minūtes, līdz ausdums sāk izžūt. Pēc tam nopemiet masku un atlikušo serumu jāiemasģējat ādā. Nav piemērota bērniem līdz 3 gadu vecumam. Nav paredzēta intīmās higiēnas vajadzībām.

L1 MASK sukurta greitam išsaugėjusios odos atgaivinimui. Minkštās šilkinis sluoksnis yra prisotintas aukštos kokybės peptidais ir hialuronu rūgštimi, kurie palaipsniui išskiria veiksmingą serumą, kad atkurtų odos drėgnumą balse.

Nuvalykite veidą ir rankas. Atidarykite maišelį, išimkite kaukę, išskleiskite ją ir nuimkite mėlyną apsauginę plėvelę. Uždenkite veidą šilkinės pusės apkaue. Nuimkite baltą apsauginę plėvelę ir tolygiai uždenkite kaukę ant odos. Palikite ant odos 20–30 min, kol audinys pradės džiuoti. Tada nuimkite kaukę ir likusį serumą švelniai įmasažuokite į odą. Netinka vaikams iki 3 metų. Neskirta intymiai higienai.

TR MASK разработана для быстрой регенерации обезвоженной кожи. Мягкий шелковый слой пропитан высококачественными пептидами и гиалуроновой кислотой, которые постепенно высвобождают эффективную сыворотку, восстанавливающую водный баланс кожи.

Очистите лицо и руки. Откройте пакет, извлеките маску, разверните ее и снимите

сильную защитную пленку. Наложите маску на лицо шелковой стороной вниз. Снимайте белую защитную пленку и равномерно прижмите маску к коже. Оставьте на коже на 20–30 минут, пока ткань не начнет высыхать. Затем снимите маску и аккуратно вmassируйте остатки сыворотки в кожу. Не подходит для детей младше 3 лет. Не предназначено для интимной гигиены.

UK MASK rozrobлена для швидкої регенерації зневодненої шкіри. М'який шовковий шар просочений високоякісними пептидами та гіалуроновою кислотою, які поступово вивільняють ефективну сироватку для відновлення водного балансу шкіри.

Очистіть обличчя та руки. Відкрийте пакетик, дістаньте маску, розгорніть її та зніміть її на захисну плівку. Накрийте обличчя маскою шовковою стороною вниз. Заніміть білу захисну плівку та рівномірно прикладіть маску до шкіри. Залиште на шкірі на 20–30 хвилин, доки плівк не почне висихати. Потім зніміть маску і ніжно вmasажуйте залишки сироватки в шкіру. Не підходить для дітей віком до 3 років. Не призначена для інтимної гігієни.

TR MASK, nemini kaybetmiş cildin hızlı bir şekilde yenilenmesi için geliştirilmiştir. Yumuşak ipek tabaka, cildin nem dengesini yeniden sağlamak üzere etkilil bir serum salan yüksek kaliteli peptitler ve hyaluronik asit ile zenginleştirilmiştir.

Yüzünüzü ve ellerinizi temizleyin. Poşeti açın, maskeyi çıkarın, açın ve mavi koruyucu folyoyu çıkarın. Yüzünüzü ipek tarafı aşığı bakacak şekilde maskeyle örtün. Beyaz koruyucu folyoyu çıkarın ve maskeyi cilde esit bir şekilde yerleştirin. Tüde kuruzama kadar 20 ila 30 dakika ciltte bırakın. Ardından maskeyi çıkarın ve kalan serumu cilde nazikçe masaj yaparak yedirin. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Kişisel hijyen amaçlı değildir.

EL H MASK έχει σχεδιαστεί για τη τρυχεία αναζωογόνηση του αφυδατωμένου δέρματος. Το απαλό μεταξωτό στρώμα είναι εμπλουτισμένο με πεπτίδια υψηλής ποιότητας και υαλουρονικό οξύ, τα οποία απελευθερώνουν σταδιακά ένα αποτελεσματικό ορό για την αποκατάσταση της ισορροπίας υγρασίας του δέρματος.

Καθαρίστε το πρόσωπο και τα χέρια. Ανοίξτε τη συσκευασία, βγάλτε τη μάσκα, ξεδύλωστε την και απαρέστε τη μπλε προστατευτική μεμβράνη. Καλύψτε το πρόσωπο με τη μεταξένια πλευρά προς τα κάτω. Απαρέστε τη λευκή προστατευτική μεμβράνη και τοποθετήστε τη μάσκα ομοιόμορφα πάνω στο δέρμα. Αφήστε τη μάσκα στο δέρμα για 20 έως 30 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να στεγνώνει το ύφασμα. Στη συνέχεια, απαρέστε τη μάσκα και κάντε απαλό μασάζ στο δέρμα με το υπόλοιπο ορό. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Δεν προορίζεται για τη γυναική των εισαδοτήριων περιοχών.

המסכה תחתה למרוך התחדשות הרוחה של עור המשי כנבט ספוגה פופטידיום וכימיים ומומחה האלוארין. התחמושת הבדודה סופגת סידר כדי לספק את המון החיות של הוורו.
למקום יש המסך והידדים. חסות את הסקית, הוציאו את המסכה, פתחו אותה והסירו את הניר המגן הכחול. בסוף את המסך כשברכה השיש הונח במיד. חסות את המסך בחלקו הכחול כיוון המעלה.
למסך יש סדרה מחולל להתייבש. למחר, הונח הסך את המסכה בסוף את שארית הסחה בדריכות תוך הונח. לא מומסלם לילדם תחתה תוך 3 ליל. לא מומסל להיגיינה אינטימית.

ZH

這款面膜專為快速修復缺水肌膚而設計。柔軟的絲綢層浸透了高品質的胜肽與玻尿酸，能逐漸釋放出色效精華液，以恢復肌膚的水分平衡。

請先清潔臉部和雙手。打開包裝袋，取出面膜，展開並撕下藍色保護膜。將面膜絲綢面朝下覆蓋於臉部。撕下白色保護膜，將面膜貼於貼合於肌膚上。靜置 20 至 30 分鐘，直至面膜開始變乾。隨後取下面膜，並將剩餘的精華液按轻柔按摩至肌膚吸收。不適用於3歲以下兒童。非用於私密處清潔。

ID MASK ini dirancang untuk mempercepat pemulihan kulit yang dehidrasi. Lapisan sutra yang lembut ini direndam dengan peptida berkualitas tinggi dan asam hialuronat, yang secara bertahap melepaskan serum efektif untuk mengembalikan keseimbangan kelembapan kulit.

Bersihkan wajah dan tangan. Buka kantong, keluarkan masker, buka lipatannya, dan lepaskan lapisan pelindung luar. Tutupi wajah dengan sisi sutra menghadap ke bawah. Lepaskan lapisan pelindung putih dan letakkan masker secara merata pada kulit. Biarkan selama 20 hingga 30

menit hingga kain masker mulai mengering. Kemudian lepaskan masker dan pijat sisa serum ke kulit dengan lembut. Tidak cocok untuk anak di bawah 3 tahun. Tidak dimaksudkan untuk kebersihan area intim.

JA このマスクは、乾燥した肌の迅速な回復のために開発されました。柔らかなシルク層には高品質のペプチドとヒアルロン酸が染み込んでおり、これらが徐々に有効成分を放出することで、肌の水分バランスを整えます。

顔と手を清潔にして下を、パッケージを開封し、マスクを取り出してを広げ、青い保護フィルムをはがします。シルク面を下にして顔全体に覆います。白い保護フィルムをはがし、マスクを肌にも均等に密着させます。シートが乾き始めるまで、20〜30分そのままにしておきます。その後、マスクを取り外し、残った美容液を肌に残し、マッサージするようになじませてください。3歳未満のお子様には適していません。デリケートゾーンへのケアには使用しないでください。

KO 이 마스크는 수분이 부족한 피부의 빠른 회복을 위해 개발되었습니다. 부드러운 실크 층에는 고품질 펩타이드와 히알루론산이 함유되어 있어, 피부에 수분 균형을 회복시켜주기 위해 효과적인 세럼을 서서히 방출합니다.

얼굴과 손을 깨끗이 씻으세요. 패키지를 개봉하고 마스크를 꺼내 후, 필름이 파란색 보호 필름을 제거하세요. 실크 면이 아래로 가도록 얼굴에 얹으세요. 흰색 보호 필름을 제거하고 마스크를 피부에 고르게 부착시키세요. 마스크가 마르기 시작할 때까지 20-30분 그대로 두세요. 그런 다음 마스크를 제거하고 남은 세럼을 피부에 부드럽게 마사지해주세요. 3세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 위생 용도로 사용하시기 바랍니다.

TH มาส์กนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อฟื้นฟูปริมาณน้ำที่ขาดในผิวที่แห้งกร้าน ซึ่งมันไม่เน้นเน้นความสวยด้วยไปโปรดความชุ่มชื้นและการไฮยาโรนิก ซึ่งจะคงอยู่ ตลอดช่วงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความสมดุลความชุ่มชื้นให้กับผิว ดังนั้นและเมื่อใช้ซ้ำติดต่อกัน นามาสก์ถูกออกแบบมาเพื่อ และออกฤทธิ์เมื่ออยู่ในสีหาลูก วามงัดความชุ่มชื้นในผิวโดยที่ความชุ่มชื้นจาก ออกฤทธิ์เมื่อถูกใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่อง ความงามจากผิวที่ชุ่มชื้นมา ถึง 20-30 นาที จากความชุ่มชื้นนี้เอง จากเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มและนามาสก์ที่มีเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มๆ ไม่แนะนำสำหรับใช้ในที่ลับ

VI Mặt nạ MASK được phát triển để phục hồi nhanh chóng làn da bị mất nước. Lớp lụa mềm mịn thấm các peptide chất lượng cao và axit hyaluronic, từ từ tích phóng một loại serum hiệu quả để khôi phục độ ẩm từ nhiên cho da.

Làm sạch mặt và tay. Mở túi, lấy mặt nạ ra, mở rộng và gỡ bỏ lớp màng bảo vệ màu trắng. Đắp mặt nạ lên mặt với mặt lụa hướng xuống dưới. Gỡ bỏ lớp màng bảo vệ màu trắng và đặt mặt nạ đều lên da. Để mặt nạ trên da trong 20 đến 30 phút, cho đến khi lớp lụa bắt đầu khô. Sau đó, gỡ mặt nạ ra và massage nhẹ nhàng phần serum còn lại vào da. Không thích hợp cho trẻ em dưới 3 tuổi. Không dùng cho vết sưng vù kín.

FA
ماسک برای بازسازی سریع پوست موثری تولید شده است. لایه آبرسانی نرم با پپتیدهای کیفیت و اسید هیالورونیک شده است که به تدریج سرسود موثری را برای بازگرداندن تعادل پوست پوست آزاد می کنند.
صورت و دستها خود را تمیز کنید. بسته زیبا را باز کنید، ماسک را از پکیج خارج کنید و لایه محافظ آبی را بردارید.
صورت خود را با است نرم آبرسانی روی بافت پرشاد کنید. لایه محافظ سفید را بردارید و ماسک را با ظور یکنواخت روی پوست خود بمالید. آن را به مدت 20 تا 30 دقیقه روی پوست خود بگذارید تا ماسک شروع به خشک شدن کند. سپس ماسک را بردارید و سرم باقی مانده را به آرامی روی پوست خود ماساژ دهید. برای کودکان زیر 3 سال مناسب نیست. برای بهداشت ناحیه تناسلی در نظر گرفته نشده است.

AR
يُصمَّم هذا المنتج خصيصًا لتجديد البشرة الجافة بسرعة. طبقة الحرير الناعمة مصنفة من سبيدات عالية الجودة وحمض الهيالورونيك التي تطلق تدريجًا فعالًا لاستعادة نوازل رطوبته الطبيعية.
طفي وجهك ويديك. افحص الكيس. اخرجى الفعاع افرديه. ثم ازيل الفعاع الواقي الازرق. غطي وجهك بحت بعضى جانب الحرير لاسفل. اربني الفعاع الاخضر. اربني الفعاع الاخضر من دون وضعي الفعاع الواقي الازرق. اتركه لمدة ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة. حتى يبدأ الفعاع بالجفاف. بعد ذلك، اربني الفعاع المتبقي على سطح اسروم عنق على شكل ماساج للاطفال دون سن ٣ سنوات. غير مخصص للاستخدام في المناطق الحساسة.

HI
हैव मास्क दूबी तृत्वा को तेजी से पुनर्जीवित करने के लिए बनाया गया है। इसकी मुलायम रेथमी परत में उच्च गुणवत्ता वाले पेप्टाइड्स और हयालुरोनिक एसिड शामिल हैं, जो धीरे-धीरे एक परभावी सीरम छोड़ते हैं और तृत्वा के नीचे तृत्वा को बहाल करते हैं।

नीचे और हाथों को धोएं। पाउच खोलें, मास्क निकालें, उसे फैलाएं और नीली सुरक्षात्मक फिल्म हटा दें। रेथमी हिमिसे को नीचे की ओर रखते हुए मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं। सफेद सुरक्षात्मक फिल्म हटा दें और मास्क को अपनी तृत्वा पर समान रूप से लगाएं। इसे 20 से 30 मिनट तक नमो रहने दें, जब तक कि मास्क सूखने में लगे। फिर मास्क हटा दें और बचे हुए सीरम को धीरे से तृत्वा में मालिश करने के समा दें। 3 साल से कम उमर के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। अंतरंग सूचयचना के लिए नहीं है।